



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

February 24, 2023

SECP holds thematic workshop on digitalization program

ISLAMABAD, Feb 24: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) held a thematic workshop to demonstrate the prototype of re-designed digital regulatory processes for Limited Liability Partnership (LLP), company registration and filing, and compliance.

Under its digitalization program, "Leading Efficiency through Automation Prowess (LEAP)," the SECP has identified key business processes that need to be reviewed, documented, re-engineered, and automated.

The second thematic workshop was organized in collaboration with technology implementation partner Techlogix Pakistan and project consultants Ernst & Young (EY). In the interactive and consultative workshop, the second in the series, participants from the corporate sector and other regulated entities shared their feedback on prototype of redesigned automated procedures.

Uzma Khan, the LEAP program manager from the SECP, discussed the impact of digital developments and integration of systems on the customer experience. She discussed the "SECP Digital Transformation Program (LEAP) initiatives like digital & IT strategies, business process re-engineering, automation of re-engineered business processes (Company Registration & Internal workflows), XBRL and Security Operations Centre (SOC). She emphasized the importance of digital-first approaches to improve, digitize and automate external interactions and internal processes.

Experts from EYFR Pakistan explained the significant pain points identified as a result of LLP Registration, Filing & Compliance business process re-engineering. He proposed a redesigned payment mechanism to reduce high error rate and provide multiple modes of payments to end users. Techlogix Pakistan representative explained the prototype and included user registration, process filing method, availability of company/user profile, documents access, payment options, and acknowledgement of decision.

The workshop was attended by a large number of stakeholders from the business/legal community, information technology experts, and SECP officials.

ایس ای سی پی کا ڈیجیٹلائزیشن پروگرام پر موضوعاتی ورکشاپ کا انعقاد

اسلام آباد، 24 فروری: سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے لمیٹڈ لائیبلٹی پارٹنرشپ کمپنی کی رجسٹریشن، فائلنگ اور کمپلائنس کے لیے ری ڈیزائن کردہ ڈیجیٹل ریگولیٹری پروسیسرز کے نمونے کو دکھانے کے لیے ایک موضوعاتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔

ایس ای سی پی کے ڈیجیٹلائزیشن پروگرام، "لیڈنگ انیشیاتیو آڈیٹیشن پرویس (لیپ)" کے تحت ایس ای سی پی نے اہم کاروباری پراسسز کی نشاندہی کی ہے جن کا جائزہ لینے، اور ان کو کارڈ کرنے، ری انجنئر کرنے اور خود کار بنانے کی ضرورت ہے۔

یہ موضوعاتی ورکشاپ اس سیریز کی دوسری ورکشاپ ہے اور اس کا انعقاد ٹیکنالوجی ایمپلیمینٹیشن پارٹنرشپ گلس پاکستان اور پروجیکٹ کنسلٹنٹس انرسٹ اینڈ ٹیگ (ای وائی) کے تعاون سے کیا گیا۔ انٹر ایکٹو اور مشاورتی ورکشاپ میں کارپوریٹ سیکٹر اور دیگر ریگولیٹڈ اداروں کے شرکاء نے از سر نو ڈیزائن کردہ آٹومیٹڈ طریقہ کار کے پروٹوٹائپ پر اپنی رائے کا اشتراک کیا۔

ایس ای سی پی کی پراجیکٹ مینیجر عظمیٰ خان نے نئے نظام کی خصوصیات اور شقوق کے بارے میں تفصیل سے بتایا جن میں احتساب اور شفافیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ٹرن آر اوٹڈ ٹائم (ٹی اے ٹی) میں کمی کرنا شامل ہیں۔ انہوں نے شرکاء کو سیکیورٹی آپریشنز سینٹر، XBRL، اور ری انجنئرڈ بزنس پروسیسرز کی آڈیٹیشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن پراجیکٹ صارفین کی آراء کو مدد نظر رکھتے ہوئے، ایس ای سی پی میں اندرونی آپریشنز کو ہموار کرنے اور خود کار بنانے کے ساتھ ساتھ بیرونی ریگولیٹرز کے ساتھ تعاملات میں بہتری لانے کی حکمت عملی پر بنایا گیا ہے۔

ای وائی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جواد بابر نے مختلف فائلنگ اور کمپلائنس کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ لائیبلٹی پارٹنرشپ کمپنیوں کی آن لائن رجسٹریشن میں سامنے آنے والے چیلنجز اہم نکات بیان کیے ہیں۔ ان کے مطابق، ایک اہم مسئلہ کمپنی کی قسم کے تعین میں درپیش معلومات کا فقدان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیس کی ادائیگی کے طریقہ کار کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جائے گا تاکہ غلطیوں کے امکان کو مزید کم کیا جاسکے اور صارفین کو فیس کی ادائیگی کے مزید اختیارات پیش کیے جاسکیں۔ ٹیکلا گلس پاکستان کے نمائندے نے کمپنی رجسٹریشن، فائلنگ، اور تعمیل کے نئے پراسس کی خصوصیات اور دفعات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے پروٹوٹائپ کا جائزہ لیا۔

انٹر ایکٹو سیشن میں صارفین کی رجسٹریشن، فائلنگ کا طریقہ کار، کمپنی / صارف پرو فائلز تک رسائی، دستاویز کی آسان دستیابی، ادائیگی کے اختیارات،، اور دیگر دفعات کا احاطہ کیا گیا۔